



سوال

(376) کیا ماں ولی ہو سکتی ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زینب کے بھائی کی موجودگی میں اس کی ماں ولی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ان کی ماں زینب کے بھائی سے چھپا کر زید سے شادی کرادے تو شادی شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ شادی کے وقت زینب کی عمر آٹھ سال دس مہینہ تھی۔ اب اس کی عمر گیارہ سال نو مہینے ہوئی اس وقت شادی سے انکار کرتی ہے۔ کہ میری شادی ہوئی نہیں۔ اس صورت میں زینب زید کی زوجیت میں رہے گی یا نہیں۔ یتنوا تو جروا

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بھائی عصبہ ولی ہے۔ اس کی موجودگی میں ماں ولی نہیں ہو سکتی۔ لہذا نکاح جائز ہے۔ اور لڑکی بعد بلوغ انکار کر سکتی ہے۔ نکاح فسخ ہو جائے گا گو پہلے بھی ناجائز تھا۔

شرفیہ

صورت مرقومہ میں سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوا کہ بلا ولی کیا گیا ہے۔ بحدیث لانکاح الابولی۔ الحدیث (ابوسعید شرف الدین دہلوی)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

[فتاویٰ شائیہ امرتسر](#)

جلد 2 ص 352



محدث فتویٰ